


# FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

**Appeal No.** \_\_\_\_\_

**2316/2023**

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	08/11/2023	<p>The appeal of Mr. Saif Ullah resubmitted today by Mr. Mukamil Shah, Taskeen Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench at Peshawar on _____ Parcha Peshai is given to the counsel for the appellant.</p> <p>By the order of Chairman</p>  <p>REGISTRAR</p>

The appeal of Mr. Saifullah son of Rushan Khan r/o-Urmar Payan, Peshawar, received today i.e on 06.11.2023 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellent for completion and resubmission within 15 days.

- 1- Appeal has not been flagged/marked with annexures marks.
- 2- Annexures of the appeal is unattested.
- 3- Check list is not attached with the appeal.
- 4- Memorandum of appeal is not signed by the appellent.
- 5- Copies of charge sheet, statement of allegations, show cause notice, enquiry report and replies thereto are not attached with the appeal be placed on it.
- 6- Approved file cover is not used.
- 7- One more copy/set of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 3524 /S.T.

Dt. 07-11 /2023.



REGISTRAR  
SERVICE TRIBUNAL  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR.

MUkamil Shah Taskin Adv.  
High Court Peshawar.

*Resubmitted.*

1. Necessary documents are hereby flagged.
2. Annexures are hereby attested.
3. Memo of appeal is hereby signed accordingly.
4. Check list is hereby attached.
5. Copies of charge sheet, statement of allegations, show cause notice, enquiry are not received by the appellent, because no enquiry etc are conducted, therefore the appellent did not place it on file.
6. Approved file cover is hereby used.
7. Required set are hereby submitted.

*Muhammad*  
Mukamil Shah Taskin  
Advocate Peshawar

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A 2316 /2023

Saifullah

**VERSUS**

Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary  
Wild Life Peshawar and others

**INDEX**

<i>S#</i>	<i>Description of Documents</i>	<i>Annex</i>	<i>Pages</i>
1.	Grounds of Appeal		1-6
2.	Affidavit.		7
3.	Addresses of Parties.		8
4.	Copy of the order dated: 27.7.2023	"A"	9-10
5.	Copy of order dated 06.10.2023 & departmental appeal	"B & C"	11-15
6.	Copy questioner	"D"	16-17
7.	Wakalatnama		18

Dated: 06/11/2023

Through

*Appellant*

*Mukamil Shah Taskin*

Advocate High Court  
Peshawar.

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A 2316 /2023

Saifullah S/o Rushan Khan R/o Urmar Payan Peshawar  
Ex-Mali Peshawar, Zoo Peshawar.

----- (Appellant)

**VERSUS**

- 1. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Wild Life Peshawar.
- 2. Chief Conservator Wild Life Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- 3. Director / Conservator Wild Life Peshawar Zoo Peshawar.

----- (Respondents).

**APPEAL U/S 4 OF KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT 1974 REGARDING THE ORDER DATED 21.07.2023 & THAT OF 06.10.2023 VIDE WHICH THE DEPARTMENTAL APPEAL OF THE PETITIONER WAS DISMISSED.**

**Prayer:**

**ON ACCEPTANCE OF THIS APPEAL BOTH THE ORDERS IMPUGNED DATED 21.07.2023 & 06.10.2023, PASSED BY THE**

RESPONDENTS NO.2 AND 03  
MAY KINDLY SET ASIDE, THE  
SERVICE OF THE APPELLANT  
MAY KINDLY BE RESTORED ON  
HIS REINSTATEMENT TOWARDS  
HIS SERVICE WITH ALL BACK  
BENEFITS, LEAVING TO AFFECT  
THE SENIORITY OF THE  
APPELLANT, WITH ANY OTHER  
REMEDY COMES AVAILABLE TO  
THE APPELLANT MAY ALSO BE  
AWARDED IN THE ENDS OF  
JUSTICE.

Respectfully Sheweth

1. That appellant, after complying with the formalities and meeting with the pre-requisite, specified for the post, was appointed as Mali on 04.09.2019.
2. That conduct of the appellant is perform in the status of Mali was never face adverse remarks nor been subjected to any departmental inquiry as is clear from his service record.
3. That absence, restrained to be conveyed due to health because of accident caused to the appellant on 15.05.2021, but at getting recovered the resumption of duty was

intended but the department refused to joining of the appellant, rather to handed over, and order dated 21.07.2023, the removal of the appellant service. **(Copy of the order is attached as annexure "A").**

4. That the order referred above was question in a departmental representation with in a stipulated period of time but was turned down on 06.10.2023. **(Copy of the orders are attached as annexure "B & C").**
5. That despite having conducted no inquiry a questioner was forwarded after receiving the departmental appeal which was duly replied the date of questioner is 28.09.2023. **(Copy questioner appeal is attached as annexure "D").**
6. That since both the orders impugned are nullity in the eyes of law. Therefore not sustainable and are required to be set aside on the following grounds.

***GROUND:***

A. That the orders impugned passed by respondent No.2 & 3 are against Law, facts

circumstances and justice. Therefore are not sustainable and liable to be set aside.

B. That E & D rule provide procedure to deal with accused Govt servant on the stance of misconduct. The allegation of any kind are to be subjected through inquiry constituted under section 4 and 5 of the rules as referred who shall act upon the allegation, get the material provide opportunity for personal hearing but not as referred as ever been attempted which is grave miscarriage of justice proving the appellant innocent making him entitled to be reinstated on his service with all back benefits.

C. That the impugned dismissal order is illegal, unwarranted, against the facts and circumstances and is liable to be set-a-side.

D. That no inquiry was ever conducted in presence of the Appellant nor any inquiry dispensation order was ever issued, even then the major penalty was imposed upon the Appellant which is against the law governing the subject & rules therein.

E. That no charge sheet & no statement of allegations were ever issued to the Appellant & thus the mandatory instruments of law are missing in case of the Appellant.

F. That even no proper right of defense was ever extended to the Appellant nor was heard in person & even then the harshest penalty was imposed which on part of the respondent department is an unlawful act.

G. That even no Final Show Cause Notice was ever issued which is a mandatory provision of law even if no inquiry is made or advised or dispensed with.

H. That it is a cherished principle of law that where a law requires a thing to be done in a particular manner, then that has to be done in particular manner and not otherwise.

I. That the opportunity of personal hearing was also not extended to the Appellant and thus was condemned unheard & because of the same grave violation of the Rules took place in case of the Appellant.

J. That from every angle the impugned dismissal order is wrong illegal unwarranted and is liable to be set-a-side, and the



Appellant is entitled to be re-instated into service with all back benefits.

K. That any other ground not raised here may graciously be allowed to be raised at the time of arguments.

*It is therefore, most humbly prayed that on acceptance of this appeal both the orders impugned dated 21.07.2023 & 06.10.2023, passed by the respondents No.2 and 03 may kindly set aside, the service of the appellant may kindly be restored on his reinstatement towards his service with all back benefits, leaving to affect the seniority of the appellant, with any other remedy comes available to the appellant may also be awarded in the ends of justice*

Dated: 06/11/2023

Appellant  
Through *Mukamil Shah Taskin*  
**Mukamil Shah Taskin**  
Advocate High Court  
Peshawar.

**NOTE:-**

No such like appeal for the same appellant upon the same subject matter has earlier been filed by me before this Hon'ble Tribunal.

*Mukamil Shah Taskin*  
**Advocate**

(7)

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A \_\_\_\_\_/2023

Saifullah

**VERSUS**

Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary  
Wild Life Peshawar and others

**ADDRESSES OF PARTIES**

**APPELLANT:**

Saifullah S/o Rushan Khan R/o Urmar Payan Peshawar  
Ex-Mali Peshawar, Zoo Peshawar.

**RESPONDENTS:**

1. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Wild Life Peshawar.
2. Chief Conservator Wild Life Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. Director / Conservator Wild Life Peshawar Zoo Peshawar.

Dated: 06/11/2023

Through

Appellant

*Mukamil Shah Taskin*

Advocate High Court  
Peshawar.

8

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A \_\_\_\_\_ /2023

Saifullah

**VERSUS**

Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary  
Wild Life Peshawar and others

**AFFIDAVIT**

I, Saifullah S/o Rushan Khan R/o Urmar Payan Peshawar Ex-Mali Peshawar, Zoo Peshawar, do hereby solemnly affirm and declare that all the contents of the accompanied appeal is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or withheld from this Hon'ble Tribunal.

*سيف الله*  
**DEPONENT**

**CNIC#: 17301-1272379-9**

**Cell: 0333-9189442**

Identified By :

*Mukamil Shah Taskin*  
Mukamil Shah Taskin  
Advocate High Court  
Peshawar.

*Mukamil Shah Taskin*  
6-11-2023

9

Annex A

9

OFFICE ORDER NO. 03 DATED 21/07 /2023  
ISSUED BY MUHAMMAD NIAZ DIRECTOR/ CONSERVATOR WILDLIFE  
PESHAWAR ZOO, PESHAWAR

Mr. Saif Ullah Mali (BPS-03), a regular employee at Peshawar Zoo since 04/09/2019. The official has been willfully absent from his official duties since 15/05/2023, despite issuance of multiple explanations/letters from both his reporting officer Administrative Officer/SDWO Peshawar Zoo vide letter No. 938/AO-Zoo dated 05/06/2023 and the Director/Conservator Wildlife Peshawar Zoo letter No. 2896/P-Zoo dated 06/06/2023 and No.2339/P-Zoo dated 12/06/2023. Warning letters were also sent on his home address through a registered post/acknowledgement but he neither bothered to attend the office resume duty nor responded any of the letters and continuously remained absent from official duties. Notice was also served to the said official in print media/newspaper "Daily Mashriq" dated 29/06/2023 but he did not respond till date.


Keeping in view the above facts, since the said official i.e. Mr. Saif Ullah Mali (BPS-03) is willfully absent from his official duties since 15/05/2023 without any intimation and approval of the competent authority as required under the rules, therefore I, Muhammad Niaz Director/Conservator Wildlife Peshawar Zoo empowered under the rules 9 of Efficiency and Disciplinary Rules 2011 hereby impose the major penalty of "Removal from Service" upon Mr. Saif Ullah Mali (BPS-03) Peshawar Zoo vide Rule 4 (b)(iii) of the rules ibid from the date of his absence from duty i.e. 15/05/2023.

Sd/-  
(Muhammad Niaz)  
Director/Conservator Wildlife  
Peshawar Zoo, Peshawar

No. 168-173 /P-Zoo,

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

1. Chief Conservator Wildlife Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Deputy Director/DFO Wildlife Peshawar Zoo.
3. Administrative Officer/SDWO Peshawar Zoo.
4. Accountant Peshawar Zoo.
5. Personal file.
6. Mr. Saif Ullah Mali (BPS-03) Mahallah Mandori Umar Payan, Peshawar.

  
Director/Conservator Wildlife  
Peshawar Zoo, Peshawar

Surgeon

Dr. Muhammad Ibrahim Barki

MBBS (Pesh), MCPS (G. Surgery)

F.C.P.S (II) G. Surgery

District Surgeon Badaber

Hospital Peshawar.



ڈاکٹر محمد ابراہیم برکی

گوردہ، شان، پتہ، چتری، پو اسیر  
اپنڈیکس، ہرنیا، معدہ، آنت جگر

PMDC NO: 11678-N

ایم بی بی ایس (پشاور) ایم سی پی ایس (جنرل سرجری)

ایف سی پی ایس (II) جنرل سرجری ڈسٹرک سرجن بڈھ میر ہسپتال پشاور

Name

Sarfullah

Age

25/03

Sex

M

Date

15/05/20

Clinical Record

Rx

o Heavy Burn on  
The (Rt) leg

o Gauze patch

o Multiple Dress

Wound

o Antibiotic

Cover

o N/V/S -> intact

o febrile

o Regular visit after D.A

Advise rest for 25 days

Handwritten notes on the right side of the page, including 'FBC' and 'Wound'.

Investigations

(Not Valid For Medico Legal Purpose)

OFFICE ORDER NO. 31 DATED PESHAWAR THE 05/10 2023 BY Amn  
Dr. MOHSIN FAROOQUE CHIEF CONSERVATOR WILDLIFE KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR B  
11

Under consideration is an appeal dated 02-08-2023 preferred by Mr. Saif Ullah Ex-Mali of Peshawar Zoo. The appellant was proceeded under Rule-9 of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servant (Efficiency and Discipline) Rules, 2011 by imposing the major penalty of "Removal from Service" through Director/Conservator Wildlife Peshawar Zoo, Peshawar vide office order No.03, dated 21-07-2023 for the charges of wilful absence from duty.

The appeal of Mr. Saif Ullah Ex-Mali was sent to Director/Conservator Wildlife Peshawar Zoo vide this office letter No.1047/WL(E), dated 03-08-2023 for comments. Director/Conservator Wildlife Peshawar Zoo furnished his comments vide letter No.476/P-Zoo, dated 29-08-2023, whereby he concluded as under:

*"He never performed his duty satisfactorily. He habitually remained absent from duty. He was warned many times to perform his duty strictly but in vain. He was called many explanations from Admn: Officer Peshawar Zoo and 15 days notice published in the newspaper for joining his duty before issuing of termination order but he did not respond. Resultantly, he was terminated from government service vide office order No.03, dated 21-07-2023 under Rule-09 of Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011".*

On receipt of the above comments, Mr. Saif Ullah Ex-Mali was given an opportunity of personal hearing on 28-09-2023 for explaining his position. He was given a questionnaire. However, it was noted that he intentionally responded every question with false statement. It is evident from the record that he was admitted to a Drugs Rehabilitation Centre for being engaged in the use of illegal drugs including ICE during his employment in Peshawar Zoo. Thus for maintaining the integrity and safety of Peshawar Zoo and wellbeing of visitors and other stakeholders, his retention in Peshawar Zoo is harmful. Thus, I hereby reject his appeal for re-instatement in service on the following grounds that:

- i. the Wildlife Department has been formally declared as Wildlife Force and there is no possibility to keep such illegal drugs addict near the para professional officials, Animal Keepers and other support staff,
- ii. he was recruited in Peshawar Zoo where thousands of visitors especially children and ladies come on daily basis. His illegal drugs addition habit may compromise the safety and wellbeing of Peshawar Zoo visitors especially minors,
- iii. his presence in these circumstances poses significant risks to the safety and productivity of the zoo assets and different stakeholders of Peshawar Zoo including contractors, service providers, security staff etc.

Based on the above factual position and exercising the powers under Rule-17 of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011, the undersigned reject the appeal of Mr. Saif Ullah Ex-Mali (BPS-03), of Peshawar Zoo and uphold the major penalty of "Removal from Service" upon him from the date he has been awarded penalty.

(Dr. Mohsin Farooque)  
Chief Conservator Wildlife  
Khyber Pakhtunkhwa  
Peshawar

No. 2783-84 WLUB-X-08

Copy for information and necessary action forwarded to the :

1. Director/Conservator Wildlife Peshawar Zoo with reference to letter No.476/P-Zoo, dated 29-08-2023.
2. Mr. Saif Ullah Ex-Mali of Peshawar Zoo with reference to his appeal dated 02-08-2023.

06/10/23  
Chief Conservator Wildlife  
Khyber Pakhtunkhwa  
Peshawar

کھلوانے والے۔ اپنے کتروں کو دیکھ کر ان کے لئے کھلوانے والے  
درخواستیں ارسال واسطے پیش کرنے حکم وارد اور کھلوانے کی تاریخ 21-7-23  
تاریخ کوئی مسائل ختم کرنے مسائل کو نوکریں سے برطرف کر دیا گیا ہے

خطاب عالی مسائل جنسین اور اصلاحات

1. ایک مسئلہ ارسال اصلاحات کے تحت پوچھا گیا کہ سیدنا و حسین علیہ السلام سے بطور حلالی  
3-4-5 حالات اور ایسی ذوقی خوش اسلوبی سے سہرا لیا گیا تھا اور کئی  
تین افسوس ہارا کہ شکایت کا موقع نہیں دیا۔

2. دیگر مسائل کا عرضہ 15/5 کو دفتر مسائل میں سوازی کے دوران مسائل کے بارے میں  
مشورہ ہو کر آ کر جسکی وجہ سے اس کے بارے میں اور اس طرح ذوقی آنے  
سے قاصر رہا۔

3. دیگر مسائل بابت مسائل متعلقہ اعلیٰ الشیخ صاحب کے اصلاحات کے اور ڈاکٹر صاحب سے  
مشورہ کیا (ڈاکٹر صاحب سے لیا گیا)

4. دیگر جو کچھ مسائل کو دور کی سخت لکھنے کے واسطے مسائل پیشہ اور اسباب اور ان کا استعمال  
مشورہ کیا۔

5. دیگر مسائل کو حاکم حجاز میں غیر عام افسوس کے مسائل کو غیر جنسین اور اس کے بارے میں  
اس حالت میں وزارت کو متعلقہ افسوس ڈی۔ جی صاحب کے سامنے پیش ہو کر  
ایسی حالات سے آگاہ ہیں کہ مسائل کو کئی بار کئی بار کئی بار کئی بار  
ڈاکٹر صاحب سے۔

6. دیگر جو کچھ 10-6-23 کو مسائل کے واسطے مسائل کی حالات کو دیکھ کر مسائل  
کو اسلئے مسائل کے مسائل میں داخل کر دیا گیا ہے اور اس کو

Amir  
ع

بین وہ لکھی عدل کے ساتھ لکھی داخل کیا ہو کہ تا حال داخل نہیں ہے  
میں نے اس بار فرات و سر بقیات سے لکھی ہے

7. لیکر سوئٹ 6/23 کو سائل کے والد نے جواب لکھی ہے کہ اس بار کو اس بار  
درخواست دی ہے میں نے اس کو عمل درآمد نہیں ہوا ہے

8. لیکر سوئٹ کو تین چار دن قبل حکم نامہ / آرڈر مورخہ 23-7-21 موصول ہوا  
صبر سے سائل کو نوٹس سے پرہیز کر دیا گیا ہے

9. لیکر سوئٹ کی غلطی سے تصدیق نہ کی گئی بلکہ یوں تصور کیا گیا اور سائل نے اس  
بابت حکم عدالت سے متعلقہ افسران کو مطلع کیا گیا

10. لیکر سوئٹ کی غلطی سے تصدیق نہ کی گئی بلکہ یوں تصور کیا گیا اور سائل نے اس  
بابت حکم عدالت سے متعلقہ افسران کو مطلع کیا گیا

11. لیکر سوئٹ کے لئے عدالت کے احکامات کی تعمیل میں درخواست دی گئی ہے  
اس بار سے سر بقیات میں کیا جاسکتا ہے۔

12. لیکر سوئٹ کے لئے عدالت کے احکامات کی تعمیل میں درخواست دی گئی ہے  
اس بار سے سر بقیات میں کیا جاسکتا ہے۔  
بہر حال کے حکم مورخہ 23/8 کو صوبہ خزانہ جاری ہے



OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR WILDLIFE  
KHYBER PAKHTUNKHWA PESHAWAR

(14)

The Director / Conservator Wildlife  
Peshawar Zoo Peshawar


No/047. MWL (E)

dated Peshawar the 03 -08-2023

Subject: APPEAL FOR REINSTATEMENT IN SERVICE

Please find enclosed herewith appeal preferred by  
Mr Saif Ullah Ex-Mali of Peshawar Zoo against office order No. 03  
dated 21-07-2023 regarding termination of his service. You are requested to submit  
your comments in the matter for further processing.

Encl Attached

  
13/8/23  
Chief Conservator Wildlife  
Khyber Pakhtunkhwa  
Peshawar

*Handwritten notes:*  
A. Ullah  
13/8/23

15

	<b>OFFICE OF THE DIRECTOR/CONSERVATOR WILDLIFE, PESHAWAR ZOO PESHAWAR</b>	
	<b>Main Palosi Road Rahatabad, Opposite Pakistan Forest Institute, Peshawar, Phone: 091-7256677 Email: zoopeshawar@gmail.com</b>	
No. <u>674</u> /P-Zoo	Dated: <u>19/09</u> /2023	

To

✓  
**Mr. Saif Ullah**  
 Ex-Mali, Peshawar Zoo  
 Address: Mohallah Mandori Urmar Payan, Peshawar

Subject: **APPEAL FOR RE-INSTATEMENT IN SERVICE**

In compliance of the Chief Conservator Wildlife Khyber Pakhtunkhwa Peshawar letter No. 2141/WL/E dated 15-09-2023, you are directed to attend the office of Chief Conservator Wildlife Khyber Pakhtunkhwa Peshawar Shami Road, Peshawar for personal hearing on 28-09-2023 at 10:00hrs alongwith all record pertaining to the appeal for defense, if any.

**Director/Conservator Wildlife**  
 Peshawar Zoo, Peshawar

No. \_\_\_\_\_ /P-Zoo

Copy forwarded to Chief Conservator Wildlife Khyber Pakhtunkhwa Peshawar with reference to his letter No. 2141/WL/E dated 15-09-2023 for information, please.

**Director/Conservator Wildlife**  
 Peshawar Zoo, Peshawar

سوال نامہ بابت انکوائری برائے سیف اللہ، سابقہ مالی چریا گھر پشاور

ہمorrh: 28 ستمبر 2023




سوال نمبر	سوال کی تفصیل
1	ڈائریکٹر پشاور کے مطابق آپ نے اپنی فراہم کی گئی بھی بھی خوش اسلوبی کے ساتھ نہیں نبھائے، کیا یہ سچ ہے؟
جواب:	صائب خالی۔ عرض ہے کہ میری تقریریں 9 یا 10 مئی اور 11 مئی کو اپنی فراہم کی گئی تھیں۔ خوش اسلوبی سے نبھایا اور اس لیے کہی آفسر مال کو شکایت کا حصول نہیں دیا۔
2	کیا آپ اکثر و بیشتر ڈیوٹی سے غیر حاضر رہتے تھے؟
جواب:	صائب علی عرض ہے کہ تقریریں 9 یا 10 مئی کو اپنی فراہم کی گئی تھیں۔ خوش اسلوبی سے نبھایا اور اس لیے کہی آفسر مال کو شکایت کا حصول نہیں دیا۔
3	کیا آپ کے آفسران بالانے کئی بار آپ سے اس بارے میں وضاحت طلب کی تھی؟
جواب:	صائب علی نے میں نے کبھی آفسران مال کو شکایت کا حصول نہیں دیا تو وضاحت دینے کا کوئی دینے کے بارے میں کیا گیا کسی کو شکایت کا حصول نہیں دیا۔
4	کیا آفسر انتظامیہ کی جانب سے آپ کو متعدد بار وارننگ بھی جاری کئے گئے تھے؟
جواب:	عرض ہے کہ مجھے وہیں قسم کا کوئی وارننگ کا حصول نہیں ہوا۔
5	کیا آپ مختلف اخبار میں کوئی اشتہار نوٹس چھپ چکا ہے؟
جواب:	عرض ہے کہ میری حکم میں کوئی ایسی بات نہیں کہ صورت حال کو اجاگر کرنے میں کوئی اشتہار یا نوٹس چھپ چکا ہے۔
6	آپ نے جو جواب انہیں دیے تو کیا آپ نے اس نوٹس کا جواب دیا کہ نہیں؟
جواب:	جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مجھے یہی قسم کی اشتہار یا نوٹس کا حکم نہیں ہے جو دینے کا منہ دینے کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔

تسلیتاً  
اللہ تعالیٰ

سوال نمبر	سوال کی تفصیل
7-	کیا آپ بخلاف تمام قانونی چارہ جوئی کی گئی تھی جسکی بنیاد پر آپ کو نوکری سے برخاست کیا گیا؟
جواب:	جناہاں میرے علم کے مطابق صحت مند عورتوں کا چارہ جوئی نہیں ہونی چاہئے اور اگر کوئی صحت مند عورت یا عورتیں اس نذر سے محفوظ رہیں تو یہ صحت مند عورتیں ہی ہونگی اور صحت مند عورتوں کو صحت مند عورتوں کے طور پر دیکھا جائے گا۔
8-	مورخہ 2 اگست 2023 کے ایبل کے مطابق آپ حادثہ کے بعد نشہ آور دوائی استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟
جواب:	یہ بات صحیح ہے کہ وہاں اس وقت کے دوران میں نشہ آور دوائی استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے اور اس کے بجائے صحت مند عورت بننے کی کوشش کرنی چاہئے۔
9-	آپ کے پاس مورخہ 13 جون 2023 کے مطابق آپ کا تعلق دو گوں کیساتھ تھا جسکی وجہ سے آپ نشیاتی کے عادی ہو گئے جسکی وجہ سے آپ کو علاج کیلئے ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟
جواب:	میرے پاس کوئی اور تعلق نہیں ہے جسکی وجہ سے میں ہسپتال میں داخل ہو گیا ہوں اور میں صحت مند عورت بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔
10-	ہسپتال کی رپورٹس کے مطابق آپ گزشتہ 9 سال سے مختلف قسم کے نشیاتی استعمال کر رہے ہیں جبکہ آپ کا موقف ہے کہ آپ حادثے کے بعد نشہ آور دوائی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مکمل طور پر متضاد ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا وضاحت دیں گے؟
جواب:	میں نے اس حوالے سے وضاحت دی ہے کہ میں صحت مند عورت بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے لیے صحت مند عورت بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔

Amir  
Mansoor

50

18616	پشاور بار ایسوسی ایشن، خیبر پختونخواہ
ایڈوکیٹ: <u>Shinell</u>	  
بار کونسل ایسوسی ایشن نمبر: <u>BC-12-3912</u>	
رابطہ نمبر: <u>0342-9000432</u>	

بعدالت جناب: مسٹر عدلیہ گل خیبر پختونخواہ سپریم کورٹ اسلام آباد

مخاطب: <u>مسٹر</u>	دعویٰ:
<u>سیف اللہ بنام گورنمنٹ H.P.K</u>	علت نمبر:
	موضوع:
	جرم:
	تھانہ:

### بابت تحریر آتکہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کارروائی متعلقہ آن مقام سیف اللہ بنام گورنمنٹ H.P.K کے لیے سیف اللہ کے ذریعے سیف اللہ کے ذریعے کی گئی ہے۔

قر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کالہ اختیار ہوگا، نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقریر ثالث و فیصلہ برحلف دینے جواب دعویٰ اقبال دعویٰ اور درخواست از ہر قسم کی تصدیق زریں پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا، نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی، نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرانے کا مختار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکورہ کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو وہی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساتھ پر داخست منظور و قبول ہوگا دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانب التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکورہ کریں، لہذا وکالت نامہ لکھ دیا تاکہ سند رہے

المرقوم: Sahinaadvocate276@gmail.com / 20

مقام اسلام آباد واہ شد العبد کے لیے منظور ہے۔

*Attested by  
Masih*